

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

FrieslandCampina Engro Pakistan Limited (Formerly Engro Foods Limited)

5th Floor, The Harbor Front Building, HC-3, Marine Drive, Block 4, Clifton, Karachi. 75600 Pakistan.

t +92 21 3529-6000 (10 Lines) f +92 21 3529-5961

www.frieslandcampina.com.pk

March 27, 2023

NOTICE OF THE EIGHTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING OF FRIESLANDCAMPINA ENGRO PAKISTAN LIMITED.

Dear Sir,

We are enclosing herewith the Notice of the Eighteenth Annual General Meeting of FrieslandCampina Engro Pakistan Limited, to be held on Tuesday April 18, 2023 at 03:00 p.m. at The Royal Rodale, TC-V, 34th Street, Khayaban-e-Seher, Phase-V, Ext., Defence Housing Authority, Karachi for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thank you,

Company Secretary

Encl: As above.

Cc. Director/HOD Surveillance, Supervision and Enforcement Department, Securities and Exchange Commission of Pakistan NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad.

FRIESLANDCAMPINA ENGRO PAKISTAN LIMITED

NOTICE OF MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Eighteenth Annual General Meeting of FrieslandCampina Engro Pakistan Limited will be held at The Royal Rodale, TC-V, 34th Street, Kh-e-Sehar, Phase 5, Ext. D.H.A, Karachi on Tuesday, April 18, 2023 at 03:00 p.m. to transact the following business:

VIDEO CONFERENCE FACILITY

Members are encouraged to attend the AGM through a video conference facility managed by the Company (please see the notes section for details).

A) ORDINARY BUSINESS

(1) To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31,2022 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports thereon.

As required under section 223(7) of the Companies Act 2017, Financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following link: https://frieslandcampina.com.pk/financial-reporting/

(2) To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ended December 31, 2023. The present auditors A.F. Ferguson and Co. Chartered Accountants, retire and being eligible have offered themselves for re-appointment.

N.B.

(1) Closure of Share Transfer Book

The Share Transfer Book of the Company will be closed from Tuesday April 11, 2023 to Tuesday April 18, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Registrar, M/s. FAMCO ASSOCIATES (PVT.) LTD, 8-F, near Hotel Faran, Nursery, Block 6, PECHS, Shahra-e-Faisal, Karachi PABX Nos. (92-21) 34380101-5 and email info.shares@famco.com.pk by the close of business (5:00 p.m) on Monday April 10, 2023 will be treated as being in time to attend and vote at the meeting.

(2) Participation in the AGM proceeding via video conferencing facility

Members are encouraged to attend the AGM proceedings via a video-conferencing facility, which shall be made available by the Company.

All shareholders/members interested in attending the AGM through a video-conferencing facility are requested to register at https://forms.office.com/e/bZ3YFkSkNa their Name, Folio Number, Cell Number, CNIC / Passport number. A confirmation email for video link and login credentials will be shared only with the shareholders who register themselves at least 48 hours prior the time of AGM.

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address shareholders.pk@frieslandcampina.com.

(3) **Proxv**

A member entitled to attend and vote at this meeting shall be entitled to appoint another person, as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her, and a proxy so appointed shall have such rights, with respect to attending, speaking and voting at the Meeting as are available to a member. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company not less than 48 hours before the Meeting. A proxy need not be a member of the Company.

(4) Conversion of Physical Shares into Book Entry Form

In compliance with section 72 of the Companies Act, 2017 and SECP's letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021, listed companies are required to replace existing physical shares issued by them into the Book-Entry form. Given the above requirement, shareholders of the Company having physical folios/ share certificates are requested to convert their shares from the physical form into Book-Entry form as soon as possible. Conversion of physical shares into Book-Entry form would facilitate the shareholders in many ways, i.e. safe custody of shares, readily available market for instant sale and purchase of shares, eliminate the risk of loss & damage, easy & secure transfer with lesser formalities as compared to physical shares. The Company's shareholders may contact Share Registrar of the Company [i.e., M/S. FAMCO Associates Private Limited] for assistance in converting physical shares into Book-Entry Form.

(5) Distribution of Annual Report through Email

Pursuant to the provision of Section 223(6) of the Companies Act, 2017, the companies are permitted to circulate their annual financial statements, along with auditor's report, directors' review report etc. ("Annual Report") and the notice of annual general meeting ("Notice"), to its shareholders by email. Shareholders of the Company who wish to receive the Company's Annual Report and Notices of annual general meeting by email are requested to provide the completed Electronic Communication Consent Form (available on the Company's website), to the Company's Share Registrar.

The audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2022, have been made available on the Company's website https://frieslandcampina.com.pk/financial-reporting/

(6) Updation of Particulars

The shareholders are requested to promptly notify change in their address, if any, to the Company's Share Registrar. In case of corporate entity, the shareholders are requested to promptly notify change in their particulars of their authorized representative, if applicable.

(7) Submission of copies of CNIC not provided earlier

Non CDC Individual Shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC to Share Registrar, if not provided earlier to the Company's Share Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited. and in case of CDC IAS or Participant Account holders, please submit copy of CNIC to CDC IAS or relevant participant.

By order of the Board

Karachi February 08, 2023 Muneeza Iftikar Company Secretary



PROGRAMME FRIDAY

Punjab elections postponement

ECP's decision in national interest, declares minister

Pakistan to postpone the Pakistan to postpone the Pakistan. The election Commission to Pakistan. The election Commission took the decision keeping in mind the economic political and security struction. The minoter said that the EEP had saved the country from a big constitution, the country from a big constitutional crisis and this decision would bring political stability in the country. Marriyum Aurangzeh maintained that under Article 218 of the Constitution, the ECP has to essure tearaper est, impartial and fair elections. Article 224 required that at the time of elections caertaker governments should be contabilished at the federal and provincial level, about the contability of the cont

There were reservations that because of one man's ego, elections were being ferced on two provinces, she used. If elections in two provinces were being forced on two provinces were beld on April 10, it would have created a commovery for forever as the corns of Parigah and Klypber Pakhrunkhwa assemblies would have ended six months before National Assembly and other two provincial assembles.

JIT to probe attacks on FJC, IHC and LEAs: minister

Diamond Industries Limited

1. MR. ETROVARI SHAPFI S. MR. CARSER BALEEM KYONE S. MR. HADSHIM ASSAM BOTT B. MR. MOHB HUSSAM F. MR. SHOHB HUSSAM

HOPE's network of hospitals and schools provide

quality healthcare and education to underprivileged

patients & children.

ELECTION OF DIRECTORS

HC and LEAs: minister

FAZAL MHER

ISLAMARAD: Interior

Minister Rana Samullah or

Thursday sold that the proven
stries Limited

DIRECTORS

The Commission And, 2077, in
sound here constituted a joint investigation teams (JFT) to probe the attack on the federal Judicial Complex.

(JFC, Jahanshood High Court (JFC) and law enforcement agencies by Pakishan Tehreebelling the imposition of the oriented protein due to this properties due to the court of the c

PARTLY **FACETIOUS**

There's a legacy of bitterness

"Well the Bhamos, father and doughter are goes, and Zardari and the Bhutto-Zardaris are still getting voices by invoking their names but at the real of the dought legacy of the inherisons is yet to be written."

"I gases you will say the name for Nareaz Sharif and his propery?"

"Yes I would, see they are all inheritors, Zardari sabbi inherited from his wife, as few generals made Navas and see the green of the property of the same for the same of the same for the same

is a non-partisan assect-ment...
"Right in that case he of she list" going to be from this country."
"How about a brown sahib settled abroad with two pasoports."
"Don't be facetious. We are not talking of allowing non-residents voting rights. "Right what about the legacy of the judiciary and the army charfe."
"If an acrious - this is a

"Saqab Nisar and some of his predecessions and per-haps successors General Bajwa and all of his ambious predecessors and..."
"A Chinese proverb: he who takes revenue for a small insult will have a bigger one thrown at him."
"Humma, but not before retirement."
"Retirement from playing the game of thrones be this continuous through the history of the disting room, or the bath-seem of ..."

"See that's the evoblem in

Court rejects remand plea of police in Hassaan Niazi case

HASSAAN INIAZI CASE

ISLAMABAD: A focal account, on Thursday, numed down a police pleas secking taken Niani into custody endner extension in physical taken Niani into custody endnermand of Barrister Hassaan Comptox (FIC) after he had
Khun Niazi the engbrue wan
Ostal purson of Pakistan from Anti-Terrorism Court
Tehreck-e-Finad (PT) (ATC).

Chairmon Imman Khun, and
Sartier, police produced
sort thin to jud in a cust registeered against him for misbehaving with police and
person of Poeta at a secunty pisken.

RACHE	TODAY	TOMORROW
	(Sumet)	(Suprise)
	Oti-Mi pen	96.28 am
7	Weather Ford	ecast
X.	TODAY.	TORRIBON
mitted	34/25 (*C):25-00 (%)	34-23 (*C) 45-00 (*G)
de	30-20 (%) 60-00 (%)	10.000000000000000000000000000000000000
re-	23-14 (*C) 58-69 (%)	23-14 (*C) 25-R0 (%)
Mile.	30.070000000000	31-17/15/06/00/04
nekhov	35-21 (*C) 08-00 (%)	34-35 (%) 100-00 (%)
efficients.	21-11 (*C) 70-00 (%)	TRANSCONTANCES
and dar	19-12 (***) 100-00-(**)	21:52:000 76:00 010
No.	11-01/523/00-00/542	1445 (53 1740 (54



11 killed and 172 houses damaged: NDMA

HECORDER REPORT

ISLAMABAD. The
National Disaster
Management Authority
(NDMA) on Thursday issued a
detailed report on damage to report of the country leaving I.

Administration were requested amaged in
appel in GB and fro house.

Appl in GB and fro house april ally damaged in
addisoned of 6.8 magnitude
that shock the northern parts
of the country leaving I.

I deal and 70 injured and 172
houses darmaged in KPS, Gilgit
Baltistan (GB) and Azal.

The NDMA in the utbranch of 6.8 magnitude cantification was besuided superior sound be submitted to the country leaving I.

The NDMA in the utbranch of 6.8 magnitude surface and Industrial to the country leaving I.

The NDMA in the utbranch of 6.8 magnitude and the state of the country leaving I.

The NDMA in the utbranch of 6.8 magnitude surface and Industry concerns, the
ground vortification was beginning.

The NDMA in the utbranch of 6.8 magnitude surface in the
past also also the recent of the country leaving I.

The NDMA in the utbranch of 6.8 magnitude surface in the post-ofpast below in the direction of the state of the post-ofpast below in the country (NDMA) in the utbranch of 6.8 magnitude surface in the concerned authorities. The
surface in the post-ofpast definition is the surface in the post-ofpast definition is the surface in the post-ofpast definition is the surface in the post-ofpast definition is the surface of the surface in the post-ofpast definition is the surface of the surface in the post-ofpast definition is the surface of the surface

heet. overview. presents bridges was immediately be for the shed were reported dams. GBDMA and ICT asterics, it said, storn, district, disaster man.

bis progeny?

"Yea I would, see they are all substitutes. Zandari subsition report based on its anial or preliminary assessment.

However, with detailed southers from his wife, a few generals made Naswar Sharif is into a leader, his daughter may have been southed as a string successor but you and I both lace to more and if Madaim Notification can take over..."

"The Kharif"

"The Kharif"

"Again who writes about his slegacy but let's be honered all The Kharif so little decisions have been checking the string of the content with respect to his assumption that elections will be held within 90 days, and this in spite of his large following—his own and those who agree that the leadership of the other two rational parties is corrept..."

"So what we would need it a non-partian historian."

"So what we would need it a non-partian historian.

"Right in that care he or

carrying relief goods reaches

Turkiye

RECORDER REPORT ISLAMABAD: Second Pakistan Navy Ship PNS MOAWIN deployed on international Humanitarian international Humaniturus Assistance & Disaster Relief (HADR) mission reached Mersin, Turkiye.

"He ha ha."

"In merious – this is a muched Mersin, Turkiye, house question?"

"We'll lot me quote hackespears to you chinks he doth protect too congrising wintersied sense and blankers for the carth-quote days of the carth-quote make afficees."

quake affectors.
The ship was warmly welcomed by Turkish Naval
officials and Pakistan diplometic staff.
To mark solidarity with
our Turkish brotherhood, a
simple and graceful ceremy was organised onboard

Naval Forces along with Ambanashor of Pukistan to Turkiye.

At the ceremony PN Mission Commander expressed condolences on behalf of Chief of the Naval Staff Admiral Mahamusla Amjad Khan Niaza and peoper of Pukistan for the tragic loss of lives and property and reafflemed PN resolve to stand with brotherly out the stand with brotherly out at the time of seed. Turkish government officials highly appreciated the support provided by the Covernment of Pakistan. At home. Pakistan Navy with traditional zeal and passion. The day dawned at the seed of the solidarity and longerity of the beloved hermeland. Full publishing commerce offered for solidarity and longerity of the beloved hermeland. Full publishing commerce offered for solidarity and longerity of the beloved hermeland. Full publishing commerce or granting or other organised on bound.

emonies and illuminations were organised onboard Pakistan Navy Ships and Establishments as per cere-monial norms. Beside, at the constal areas Pakistan Zindabad

Pakistan Day marks the determination and special eminence of Muslims of the sub-continent and recoflects their determination and prominence that fight all odds with unity in changing the course of history.

Consistently, in accordance with the directions of Government of Pakistan, Pakistan Nery demonstration unsurveying commitment



NOTICE OF MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Eighteenth Annual General Meeting of FrieslandCampina Engro Pakistan Limited will be held at The Royal Rodale, TC-X, 34th Severt, Kh-a-Shar, Phase S, Ext, D.H.A, Karachi on Tuesday, April 18, 2023 at 93:90 p.m. to transact the following business:

VIDEO CONFERENCE FACILITY
Members are encouraged to attend the AGM through a video conference facility
managed by the Company (please see the notes section for details).

A) ORDINARY BUSINESS

To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2022 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports thereon.



(1) Closure of Share Transfer Book. The Chare Transfer Book of the Company will be closed from Tuesday April 11, 2023 to Tuesday April 18, 2023 to Tuesday April 19, 2023 to Tuesday April 19, 2023 to Tuesday Tu

(2) Participation in the AGM proceeding via video conferencing facility. Members are encouraged to attend the AGM proceedings via video-confeasity, which shall be made available by the Company.

All shareholders/members interested in attending the AGM through a video-conferencing facility are requested to register at hitspa://dom.acfidos.com/eb/23/FFEANs their Name, Folio Number, CA Number, CA Number, CA Confirmation email for video link and login credentals will be shareholders who register themselves at least 48 hours prior the time of AGM.

Proxy A mamber entitled to attend and vote at this Meeting shall be entitled to appoint another person, as his-her proxy to attend, speak and vote instead of him/her, and a proxy to appointed what have such rights, with respect to attention, speaking and voting at the Meeting as are available to a member, Proxis, in ordar to be ethiciting, may be to be expected to the sea than 48 hours before the Meeting. A proxy need not be a member of the Company (or less than 48 hours before the Meeting, A proxy need not be a member of the Company).

(4) Commercian of Physical Shares into Book Entry Form: In compliance with section 72 of the Companies Act, 2017 and SECPs letter No. CSD/EDMsec 2016-839-040 dated March 26, 2021, listed companies are required to replace existing physical shares issued by them into the Book-Entry Form. Given the above requirement, shareholders of the Company having physical folios share certificates are requested to convert their shares from the physical form into Book-Entry form as soon as possible. Conversion of physical shares into Book-Entry form would facilitate the shareholders in many ways. In safe custody of shares, readily available market for instant sale and purchase of shares, eliminate the risk of loss & damage, easy & sociule triansfer with lesses formatiles as companed to physical shares. The Company's shareholders may contact Share Register of the Company E.e., WG. FAMCO Associates Private Limited] for assistance in converting physical shares no Book-Entry Form.

Distribution of Annual Report through Email
Pursuant to the provision of section 22(8) of the Companies Act, 2017, the companies
are permitted to dividually their annual financial statements, along with auditor's report,
directions' inview report etc. ("Annual Report") and the notice of annual general meeting
("Notice"), to a shareholders by email. Shareholders of the Company's how wish to
receive the Company's Annual Report and Notices of annual general meeting by email
are requested to provide the completed Electronic Communication Consent Form
(available on the Company's website), to the Company's Share Registrar.

The audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2022. Nave been made available on the Company's website intrestandoampins.com.ph/financial-reporting/)

Karachi February 08, 2023

0 PHILIP MORRIS (PAKISTAN) LIMITED

Pursuant to Clause 3 (80) of the Federal Federal General Order No. 3/2007, the retail prices and the policable sales Iao of our various brands with effect from February 25th, 2023 are as Tollows

none.	Parking	Result Dist (Re)	Sales Sec.	111	
Maribara Celif	2004	484.32	75.48	481.00	
Heritors Vota Ferest Hist	394	423.49	#131	101.00	
Hartters Vata Summer 7ext	204.	ATLE	91.71	122.00	
Performent Hight Blue.	20%	177.66	30.34	20.66	
Performent Red	2016.	179.46	30.34	212.00	
Bed & White Speciel	2996.	177.44	32.34	253.00	
Fred & White KSE	2006.	177,44	32.34	310.00	
Moreon by Charlestons	2006.	177.44	33.34	FU.46	
Moreen Danielo	2006.	118.64	21.36	148.00	
62	2000.	199.64	21.34	148.00	
Repete	1996.	198.64	21.36	148.00	
Digitarial	1996	198.64	21.34	146.00	

بدین، ناجائز منافع خورول نے مہنگائی بم گرانا شروع کرد۔ آ تا يكمي چيني دواليس بيسن ميلل دستريال مدود هددي من مانے ريث رفروند

بدین (ناسر کار ۱۸ مام میاسم کا تازید میری اطلاده میری در در گداشتهای خود دو تر کسی کار کار میری کلی میران میری خود دار میری کار از میری از میده شرور کسی کردارار و کی مالی میری کردیا میری کلی کسیم کرده شروع کردید به ایری بختی به به به بینی بینی میری کسی میری کسیم و درود و افغار اور دانگی، ویزی، میلی ادر میزیان، دورد دون می اس

منحی (نامدتار) پایلیار کرتیب ورمنفورد یا ترین کی بیب المشاکی، 20 جمان بازک، 20

حاضری و سے کروا کی آئے والے یا تریس کی جیپ الت گل۔ بھیج عمل آ کھائی حلہ بابلیارے ایک تاب خاتھان کے دالے 122 سال محمود یال جھوا ا



بدين، وفي مشرآ فاشا بنواز خان يوم ياكتان كي تقريب على قطاب كرد بي إلى مٹیاری وگر دونواح میں مٹی کےطوفان کے بعد بارش

باتی شهرکے مین روؤ شاہی بازار میں بارش کا پانی بھے ،صفائی عملہ غائب

ننڈ وجام، ریلوے آشیشن روڈ پر گٹرلائن کے ڈھکن غائب

عوام میت گوسلر بھی سرایا حقیاج ، گنرلائن کے ذھکن لگانے کا مطالبہ

قروت میزیل کروس میزیل می فرید او اس کی دسترس سے با بر اولیس لینے کا مطالبہ دید کو اس کی استان کرد میں اس کے با بر اولیس لینے کا مطالبہ دید کا دوارہ میں کا دوارہ میا کا دوارہ میں کا دوارہ میں کا دوارہ میں کا دوارہ

1

میڈکوارٹرز پاکستان رینجرز (سندھ)

والزاورة فارت أينا ومطوب إلى وتيارة موراد 12 إن في 2023 و 120 ي LityLAR SIRMSURVIYE

1944 (20-140 4000

لوليت مشاخوا الشندميوني كم رز وسية زز دور فالمرصوب كالمازيك والمرتك الميارات ما الدر المعلمة المعلم كما المعلمة الم ريكايت كي تعديق الدوكا بدائية المسكس أرة اوري كي ..

فارم على وى كى الرائلات مطابق فيلارز كوف بالمرك سك، فيلار فارم آرايس £1100@c=111,2023&c=11=2023&125=1==(==)2+= ے 1400ء کے گئے (زمان باطق الآوار) کے بالا سے) حاص کیے جانک ہے۔ (25 کی دائل) میڈ دار پارٹ اردائش کا حمل ماہدائد کا فرول پاکستان الجروز (صدے) کی کردان امکی نے تذراہ دام سردر 13 ان کیل 2020ء تھے 1310 بھی کٹ ٹیڈز ہاکس تک (ال با ك ين - حريه محيدات كيك فون قبر 99205285 ادر 99205287 -(Exta-3095) 2 / Cary (021 / 1/1)

(کارانم (20) پدین کار پر (2005). او نیخ برای پائیس رخوا (مشده کاکل عالمی به کرده کی آنک یا ۵ به نیزدد کا بیک پداید مصدر نجابوی ایش (2010 کرده مشدی موترکزدست . کیفیلیسترکل پداید مصدر نجابوی ایش (2010 کرده مشدی موترکزدست . (2 de 5 le 30)

الميال سازياده كل سود هد يه الميان ا

عُواقِين عورمرد شال إلى - زفيول كالعلق أيك ع

خاندان سے نایاجا تا ہے، نایاجا تا ہے کرمیے ہیں۔ محوائل سے زیادہ اوک موار ہے، جیسے ارا کودگی

توى پرچم كشائى كى تقريب

(ماتلی، بک یومیشی اسٹورکاافتتاح

رافعت یا در اس من به ان شاسطه داری هو مدان الله طوق کی مودد هساسهٔ صرف اعتاق با ان فتر ب سیسهٔ موثی به انگساسهٔ کارگه اکارول جانب ساق کاد کان شده الله کاری که ساق سام ان این ما موان دادد داری کاد کان شده ما در این که موان که می موان شده داری که دادی شده می از کارون که می خود دادد که داد می این موان که می خود که داداد که داد می این موان که می خود که داداد که داد می این موان که می خود که داداد که داد می این موان که می خود که داداد که داد می این که می خود که داداد که داد می این که می خود که داداد که داداد که داداد که داداد که داد می خود که داداد می این که داداد که د

ما تلى ،جوئے كاؤے ير چهاپ ایک کارنده کرفتار

سلمانول كيدين عدداست كابنيادا ل وكافى-

جیڈہ (ناسٹاکہ)اوائٹ اسٹائی کے زیر انتقام از الدید جیڈہ سے حفظ دیا طروق آن کریم عمل نے والے علیادہ تاتا ہی اسٹائٹیم کی تغیرہ حداث لدید جذہ کے زیر ابتدام جائع مجد جذہ عی کڑیں۔شعدی گئی جس جراز آن کریم عند کرنے ر پیٹ مسئول میں مار میں اور اور آن کریم عمل کے 16 عند کرم اور ماقر ہ آن کریم عمل کے والے 22 عمل استاد کشیم کی سختی استاد کشیم کی سکتی اور ریب سے دائمت استان کی مرکز کی اللی افساق ک ان ما كى قارد ق جياء فى _ فصوص الفاب كيا-

اوث غلام محر منشات كرين

اندرون سندھ يوم پاكستان كلى جوش وجذبے ہے منا يا كيا بدین انواب شاه ، ما تلی اور دیگر شیرون پیش نقریبات ، ریلیان فکالی گئیں

الم مين الوال المراكف المراكف المراكف المستخدم المراكف المستخد المستخدم المراكف المستخدم الم

یم یا کتاب در این کلید بیشان کار می می این و می میدان کار به یا کتاب در فی استدی کشوطی شیر بیدانی کا توجه می این گیامه فی می کار کشته الاصده می میداند. می می مرکزان کاروری کنار کشته الاصده می میداند کاروری می مرکزان کاروری کنار می این الاصده الاصده کاروری الاس کاروری الاس کاروری الاس کاروری الاس کاروری الاس کاروری ভ ر المشرقت ابد مستومتن صفع شعب

نواب شاد استنت كشرطى شرعالى كاقيادت عن يهم ياكتان رفي تلالى جارى ب منشیات فروشوں کی صحافی کو جان سے مارنے کی دھمکیال

سحافیوں ، سیاسی ، مهاتی و ندایسی برنامتوں کا احتجاجی ، کارروائی کا مطالبہ عرف (ور دار کار) عرف علیات اینکرنے کا معالد کیا۔ س مرتبی پی ٹی آئی۔ فردگی کار مرتا کرنے پرسمان میں مدینا دیگر آفاد کیا۔ ترق بدند پارٹی فیار مزین پیکستاند م

فرق کی کاری کاری سر میده می معطیف بید سر ساته مواله اید استان مواج کی کا گاه از اید ترقی بید فرق اید کی از گاه از کرد ترقی بید فرق اید کی از گاه از کار ترقی بید فروس ساته کار از اید می مواند میده بید کار اید می مواند می مواند اید بید می مواند مواند می مواند مواند مواند می مواند مواند می مواند مواند می مواند مواند

CHO CHE N. 25 n

ئل اخذ كيس ريكولينزي القار في (اوگرا) ماوگرا آرا ينش اور ياكنتان آكل (ريلاكنگ، بلينارنگ ، ترأمپورتيش ، مشورتگا اور اركيانك) رياز 2016 ك تحت شاه رواوي متريم آكل سيكركور في ليت كرتى بيد اوكرا بي او ثفا كية متعانة ليكنيكل متينذرو كي طابات المراق المراعر كرميها كراكل مؤوث أكل ريائزيز وآكل يائب المؤكا تعير كيك المنس جاري كرتي ب ت كما وورينين آؤت ليس اور برويم معنومات كي ترسل كرف والي كازيال مي اوكراكي و ثفا تيذ متعالة يكنيكل شينذر (جو

درے ہالا آئل افر اسٹر کھر کی متعلقہ چیکنیکل منیٹ رے مطابقت جا میجے کیلئے اوگر اکو 5 سے 6 معروف تھر او یارٹی انسیٹرز کی ضرورت بي تصوصاً السي هر د يار في السيم زين ك ياس اس في آئى سي منظور شده افرادى أوت بوراد كراكومعروف في ويان الاقوامي كينيال أفرمز بوبطور تعرؤ يارني الميكفرز أعل اغزاستر يكوزك جائح كالتجريد كلتي بول سد اعتبار دلجهي مطلوب ب- ورخواست ر ابتد وقر حزا کمپنیاں جن کے پاس کم از کم 10 سال کا متعلقہ تجربہہ ہو دو تواست دینے کی اٹل ایں۔

www.ogra.org.pkاوري او يب سائت www.ppra.org.pk سے ڈاؤن اوڈ کیا جا سکتا ہے۔ ٹواہشند پارٹیاں جومطلوب معیار پر بورااز تی ہوں اس اشتہار کی اشاعت کے 30 ایام کے اندرور خواست و سے محق ہیں۔

سائد www.ogra.org.pk پر جوروں) کے مطابق ہوجا او تی ہے

زع آف ریاز نسز (TORs) در جانگی کا معیار اوگرا کے آگل فریمار امنت سے حاصل کیا جا ملک ہے یا اوگرا ویب مالت

ينترا يزينوذار يكز (آئل) آئل ایندگیس ریگولیٹری اتفارثی 54-B فِعَثَل حَقَ رَودُ ، بليواريا ، اسلام آباد فول نبر: 9244090-98

مفام برائے توای آگای: كيس يلي جان ليوا حادثات كاسب بن عكى إحتياطي قد ابير يقيني بناسي اورحادثات يريي

یا تی (نامہ نگار) دیکٹنی کار پر یکٹن کے دائل شاہر ویکٹیز خان نے باقی شمر تک کیک دیکٹنی اسٹور کا داخلات کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ان با کا

مهران يونيورش فسأنجينئر تك اينذ

عينالوي من يوم پاكستان كي تقريب رو یا کتان کی المیادات کے میں سے تھر پر موال بعد الاکٹو کور معلق تو کے کا کہ 1940 عمل کے بالی محد مل برق کے قرور معنق کردا کر

ما تى (نامد قار) ئىل دۇ ھوماتى دارىسى ئ

خاتون جال بحق، مينازخي

میون (ناستار) میون کوال کاون کرچور می مکان کی جد کرنے سے خاتون جاں بی ویا ڈگی ہوکہار تعیدات کے مطابق یاں فارہ و کا دی موبار مصادع کے مطابق مان کی چھر کرنے ہے اور الدرطوان و الدرطوان و کا بطابق خاصی فارمون کی جار ایک اور ان بجد کرمید عرائد شاہ المنظیف میں کارکر آیا۔ حفظ و تاظر و قرآن کر کرمیا محمل کرتے والے الحالی و وفقا کا شمار استار تشمیم

وطرز يوليس كى المحمول عداوجل

حيدة بار كارش بارش الدى التى ، يمن المداب مرة ، على مسلم ياتي يك ماتى عمرى جانب مع مع كانت كموقع بدر في كال جارى ب

IBA Sukkur IBA University

TENDER NOTICE
Tender # PROC/341

02 Gowns on Rent for Convocation 33 Event Management Services

04 Printing & Stationery

Photocopier with Booklet Finisher Solar System & DC Batteries

08 Desktop Computers & Laptops

10 Biometric Devices

10 Islometric Devices

11 Rented Bungalows for Hostel Purposes

Details of specifications and quantity are mention tender documents, which can be obtained on put demand draft/pay order for Rs. 1809/9. (Non-refi. favor of Sukkur IBA University, from the officers) and dampay order for Ns. 2007 (Not received a r of Sukkur IBA University, from the office unement Department Sukkur IBA University king day March 25, 2023 to April 12, 2023 upto 1 Last date for the submission of bids is April 12, 202 8:00 pm. The technica 03:30 pm in the pro

> LEASE SEND YOUR QUERIES: hari@iba-suk.edu.pk SUKKUR IBA UNIVERSITY

ہم پاکستان پراہم کیوا م میر ہورخاص و مؤکس کی جانب سے پر چم کشائی کے بعدوما کی جار تی ہے سنيز ملك امام الدين شوقين

كاتعلقهاسيتال كادوره

کارة در(دمدناد) کارة دری دینزین آگ ب اولینت اقدالی هلع سالعزینظر مکتب دام نظار شدائع سناست سنانات سال المؤافرة المهم المؤافرة المهم المؤافرة المهم المؤافرة المؤافرة المهم المؤافرة المؤ

مٹیاری،رمضان شروع ہوتے ہی مہنگائی کاجن بے قابو

رہ بادروں سے بیانی کا حوالی طرفر کی مختل ادار گالی سیستار کران اور والی مرکاری دید است کی تجالی کو نظر اعداد کر العراق والأولان الأولان التري الإنسان التي الايران التري والمساور والتري التي التري الاركوان أولان بالإركان الأولان التري ويكري ويوره... كله تحلق بالزنك كل مي فرود الاكان المراجع والاركان التي والمراجع التي وا

صلى الكامية كم مبتكائي يرقابو بان كروا عدهر عداهر

ے مہاں سوسے اور ویکہ اخیاے فردولی کے یہ کہ پہنوں کے اور دیگر اخیاے فردولی کے ریٹ اسٹ آ ویز ان کردانے کے ساتھ ساتھ مسرالد مشرد کیتوں پر فردائے کو مختل بعا کرکران فردی ادد

是 とうころうとうかもうとしか ن باعد مرس مراوع المعان المراوي فريده الله المراوي فريده كي قيتون عي مي اشافركر واكم المراوي فريان المراوي كومت اورشني اتفاعيت مطالبه كي

فريزلينذ تمييناا يتكرو بإكستان كميثثه

اطلاع اجلاس عا اطلاق وى جاتى بيدك قرع لينذ كموية الميكرو باكتان أحلفه (اليسى الى في الي) كا ١٨ وال سالاند اجلاس عام (السدى الم) ١٨ اير في ٢٠٠٣ برود مُثلًال سيم ترجي بيك والل روز في من ي وق ٣٣٠ وي مؤكد مثليان تور فيزه ، وقى الحال السيمينيش ، كرايي على جوكانة عن عن ورج ولي كارو بارق المورز برقورة أي كي

ويدي كانفوش كالمولت ہران گاے تی ایم می اثر کے کی حصل افرائ کے لیے گئی کی جانب سے دیا کا افران کی سیات قرائم کی جائے گی۔ (براے

بافى مزية تعيدات كي فيافس يكشن ويكسيس) عام كاروبارى معاملات

ا او مبروم و کوشتر بوت سال کے آفت شدہ اکا انتش، اوا تر بھٹرز و آفیاز کی رپورٹس اور شائز مین کے جائزے کے ساتھ عاصل كرنااورأن يرفوركرنا-کینیز ایک عامه کے بیکن rer کے ایک کافت مالیاتی حالی کھٹی کی ویب سائٹ پر اپ اوا کردیے سے وی جشیس شرورت كافت QR كواكواتكين كركة الان اود كياجا مكاب



ا بط محتی جار ار فا اکا کاشش رینا تر ہو بچکے جی متاہم افل ہوئے کے سب دوبار واکٹر ری سے خواہ شند ہیں۔

ابعه مان فارد (۱۹ و ساز عار برچ یان ۱۹ مهم ۱۱ او ساز ۱۹ مهم ۱۹ مهم روی سواستاند بازد. اوش (۱) هم تروز آسفر بک تاهلی پر پایندی کمپنی کی شیر زنر آسفر بک کی همکلی بروزشکل ۱۱ پر پل ۲۰ مه سه بروزشکل ۱۸ او پر پل ۲۰ مهر دونون دان شال) بندر ب ك - عار عدد جزار (FAMCO) فا كواف وي ايت ي الح يت لوند، ٨ - ايف وترو وكل فاران وترى واك - وفي ای ی ای این شایراه فیمل کراچی، نی اے باکس فیمرز: ۵۱-۱۰۱۰ (۹۲۳ +) اور ای میل info.shares@famco.com.pk يروزي والتي في ٢٠٢٣ كولويل كرافتام (شام ه بير) تكد موصول و نے والی معلی و حتی منافع کی اوا لیکی اورا جائی اور اوال میں الرائت اور ووٹ وسید کے لیے تا ال آبول سجما جائے گا۔

のよりがは ショントルカラ

كانى كى جانب سے قرائم كردود فير كا كافرانك كى ميرات ك دريد اراكين كى اسدى ايم كى كادروائى من الرك كى حوصل افزانی کی جائے گی۔

ویڈ اوکا افزانگ کی میوان کے ذریعے اے تی ایم جی اثر کے آئے جی ولیسی رکھنے والے تمام حصص بولڈرز آم میران ہے ورقوات کی جاتی ہے کہ وہ https://forms.office.com/e/bZ3YFkSkNa ہے ایج تام و او ایر اس Coll فبررى اين آئي ي/ الم مورث فبر كساته رجنز في جواب وفي عالك اورالك إن ك في تقد الى الى ميل صرف

ن صلى يافتكان أوكياجات كاجوات في ايم كونت عدم الركم ١٨٨ تحف يبل خودكور جدا والراليس ك معن بافتان اے تی ایم ایجندے کے الات کے حوالے سے اپنے سوالات اور تیمرے ای میل الدرائر _್ರ್ಫ್ ಕ್ರೀ shareholders.pk@frieslandcamp

しんないはんち (ア)

اجلاس عن قرائت كرف اورووت وسية كرحقدار كن اسية بجائ كى دومر عاض كواجلاس عن فرائت كرف ويوك ورووٹ دینے کے لیے قائم مقام مقرر کر کتے ہیں۔ مقرر کردہ قائم مقام کواجلاں میں شرکت کرنے ، ہو گئے اور ووٹ ك ووقام حقق حاصل دول ك يوكس مجر كوحاصل دوست بين . ينخى كوقائم مثام كى نامودكى اجلاس بيم ازتم ١٩٨ م يحق فق

وصول ہونی جا ہے۔ تائم مثام کا کمینی کارکن ہونا شروری فیل ہے۔

فويكل فيتردى بك النوى قارم مى الدفي فویکل شیئرز کی بک اعری قارم علی تر بی عداد شده صعی بافتان سے لیے تسوی فائل کویٹر ایک عادم سے سیکٹن اعدادرائي الي في ك عدائير CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورقد ١٠١١ري ك ١٠٠١ ك تحت العدا کینیول کے دریعے جاری گردوموجودوفز یکل شیئر زکو بک انتری فارم میں درج کرانا ضروری ہے۔متدرجہ بالاض بہاں سے در سے چین مردہ و دروروری سرو و بدا میں دوروں کے اساروں مردہ سروروں ہے۔ تعدید بالاسرور کے اسرور اور کا و کمیت ہوئے نویکل فر ایرا شیخ طالبت رکنے والی کمیٹی کے حس اور کا کہا عری دورات کی باقل ہے کہ دو اپ شیخ ترکی فوتکل فارم ہے مبلدار بلد کہا اعزی فارم ہی تہر بل کراہیں نویکل شیخ دکا کہا عری فارم میں تبدیل کراہ کے سے حسمی یوفتان کو کل طرح کی مہرتیں بلیں کی مشاخص کی حقوظ تو مل جسم کی فوری فروات وارشد بداری کے لیے آسائی ہے دستیا ہا کہ کے مشامان اور فلسمان کے اطراح کو تھم کری افزیکل شیئرز کے مثال ہے میں کری کا دروائیوں سے بھیا ہوتے اسان اور محقوظ منتق فردیکل شیئز دکویک اندی قارم شار تبدیل کرتے کے لیے کافی سے صعبی افتطان کوفی سے شیئز وجسز ار

(يعنى يسرز فا مكواليوى ايش يرائع بين أمينة) عدابط كر علت بي-مالاند بوث كائ مل كة ريع قراص کمپینز ایک ۲۰۱۵ کے سیکشن (۲) ۲۲۳ کے تحت کمپنیاں اسپنے سالانہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ آؤیز کی رہر وِالرَّيْسَةِ زَكَى جائزور يوري وفيرو (سالا فدريورك)اورسالا شاجال عام كا نوش البي شيئر والدروكو يذريها ي مثل يمين ر المساوري مي الرام المستقدة مي ما الدر بورث اور سال الماس عام كونهم بدر بداي مي المواسك كرة بايت بيران من بين شيخ مولدرة بوم من كاسال در بورث اور سال ما الماس عام كونهم بدر بداي مي المواسك كي التي من الماسك كان م ر شار ار گوفر اہم کریں۔ ۲۰۱۱ و مبر۲۰۱۳ کوشع ہوئے سال کے لیے گونی سے آٹٹ شدہ مالیاتی محرشوارے گونی کی ویب سائٹ https://frieslandcampina.com.pk/fir) ے ڈاؤان اوا کی ہا تکتی ہے۔

كالبديليون كالكسيلات أكاوكرنا عن بإفتان ے درخوات کی جاتی ہے کہ اگر اُن کے ہے میں کوئی تبدیلی ہوتہ فررا کمپنی کے شیئر رہنر ارکو عظام کریں۔ ں وہ میں ادارہ ہوئے کی صورت میں شیئر ہوائد رزے درخواست کی جائی ہے کدہ داستے مجاز ارائد سے کی تنطیعات میں تبدی کی سے کئی کے دہنر ارکافورا آ کا کار کی سے بہت صال معاملہ ہے، جس برفوری محمد را قدایا جاتا مزودی ہے۔

はんちらいしいいにころのことがらという مان والى الفرادى مسمس وفتكان كوايك بار ماريا والى كرائى جاتى بسكرودا بالا تشكل الدوى الدائى كى الكساكا في اليون والى الفرادى كرائي ، اكرا مجى تلك كافى سريستر و بعز الرفتك لا مواديا بيس (يرا اليويت) لمواد كما أن ال دُى ي- ٱ فَى اسِ الْسِي الْسِرِ بِكِ الْا وَمَن بوللروْ كَ صورت شرى اين آ فَى يَكَ كَا فِي ق وَى - آ فَى استاك بإمثقالة، - どいけんよう

> 3,0 خيز والحكار ۱۰۲۳، قروری ۲۰۲۳ 34.40